



اللہ! میری رائے نمائی فرما اور رائے راست پر چلا "الْهُدَى" لفظ زبان پر لاتے وقت اپنے راستے پا لینے کو یاد کر لیا کرو اور "السَّادَاتُ" لفظ زبان پر لاتے وقت تیر کی راستگی کو یاد کر لیا کرو

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: "اللہ! میری رائے نمائی فرما اور رائے راست پر چلا" "الْهُدَى" لفظ زبان پر لاتے وقت اپنے راستے پا لینے کو یاد کر لیا کرو اور "السَّادَاتُ" لفظ زبان پر لاتے وقت تیر کی راستگی کو یاد کر لیا کرو" [صحیح] [رواہ مسلم]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں: "اللہ! میری رائے نمائی فرما اور رائے راست پر چلا" یعنی اللہ! میری رائے نمائی فرما، مجھے توفیق دے اور تمام امور میں رائے راست پر چلا "الْهُدَى" لفظ کے معنی ہیں: حق کی تفصیلی اور اجمالی معرفت اور ظاہری و باطنی طور پر اس کے اتباع کی توفیق۔ جب کہ "السَّادَاتُ" لفظ کے معنی ہیں: توفیق اور تمام کاموں میں استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہنا، قول، فعل اور اعتقاد میں سیدھے راستے پر گام زن رہنا، چونکہ معنوی چیز محسوس طریقہ سے واضح ہوتی ہے، اس لیے یہ دعا کرتے وقت اپنے دل میں اس بات کو مستحضر رکھو کہ تم اس شخص کی طرح ہدایت مانگ رہے ہو، جو سفر پر نکلا ہوا ہے وہ کہہ دے "اللہ! میری رائے نمائی فرما اور رائے راست پر چلا" اور بہ سلامت جلدی منزل تک پہنچنے کے لیے ذرا بھی دائیں بائیں منحرف نہ ہوں۔ اسی طرح تم تیر چلاؤ وقت اس بات کا دھیان رکھتے ہو کہ وہ بہ سرعت صحیح نشانے پر جا لگے جب کوئی شخص کسی چیز کو نشانے بنا کر تیر چلاتا ہے، تو تیر کو بالکل سیدھا رکھتا ہے اسی طرح تم اللہ سے کہو کہ وہ تم کو تیر کی طرح سیدھا رکھے اس طور پر تم اپنے سوال میں ہدایت کی انتہا اور راستہ کے کمال کو مانگنے والے ہو جاؤ گے اللہ سے رائے راست پر قائم رہنے کی دعا کرتے وقت اپنے دل میں اس پس منظر کو مستحضر رکھو، تاکہ رائے راست پر چلتے وقت تم درست نشانے پر چلنے والے تیر کی عملی تصویر بن سکو۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5915>